

آپنے رزق حلال کھائیے

مؤلف

پروفیسر محمد عظیم فاروقی

(اسکالر اسلامیات، عربی، انگلش، گورنمنٹ کالج آف کامرس، گوجرانوالہ)



عظیم پبلی کیشنز
عظیم ایڈمی، گوندلانوالہ روڈ، گوجرانوالہ
پاکستان Tel: 0300-8641756

آیتے رزقِ حلال کھاتیے

تبلیغی سلسلہ نمبر ①

جملہ حقوق بقا کا سارہ محفوظ

مؤلف	پروفیسر عظیم فاروقی
بیرا اول	15 شعبان المعظم برطانیق 30 ستمبر 2004ء
صفحات	16
ناشر	عظیم پبلی کیشنز پکٹن عظیم پبلی کیشنز پکٹن Tel: 0300-8641756
مطبع	شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور۔
قیمت	10/- روپے

باقی لوگوں کے لئے
خوبصورت ہفت روزہ اور معیار کی کتابیں
پیش کرنے والے ادارہ

عظیم پبلی کیشنز

انتساب

میں جملہ رفقاء کی مشترکہ سعی جمیلہ کو اللہ کے حضور شرف قبولیت کے لئے پیش کرتا ہوں اور اس کارِ خیر کی تمام حسنات و برکات اپنے

شیخِ حضور ﷺ
طریقتِ علامہ
محمد سعید احمد بخاری رحمہ اللہ

کی دوسری برسی کے موقع پر بطور تحفہ و ہدیہ پیش کرتا ہوں۔
مولائے کریم میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جملہ رفقاء کو دارین
کی برکتوں سے مالا مال کرے اور میرے آقائے ولی نعمت کی مرقدِ انور کو
بقعہء نور بنائے اور حضرت کے درجات اپنے حضور بلند ترین فرمائے۔

آمین (بجاہ النبی الکریم ﷺ)

خادمِ اسلام
پروفیسر محمد عظیم فاروقی

حرف آغاز

اسلام زندگی کے ہر شعبہ میں انسانیت کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور جہاں کہیں مناسب ہو چند حدود و قیود کا بھی تعین کرتا ہے۔ ان حدود و قیود کی پابندی ہر ایک کے لئے لازم قرار دیتا ہے۔ اور اگر تعصب سے بالاتر ہو کر دیکھا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی کہ جہاں کہیں یہ حدود و قیود لگائی گئی ہیں وہ انسان ہی کے فائدہ کے لئے لگائی گئی ہیں۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کی محدود فکر اور سوچ اللہ کریم کی لگائی ہوئی ان پابندیوں میں سے کسی کو بے فائدہ اور فضول خیال کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ کریم نے پابندیاں صرف وہیں لگائی ہیں کہ جہاں انسان کا فائدہ ان پابندیوں میں ہو۔ اللہ کریم اپنی حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ انسان ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ پابندیاں اگر فلاح انسانی کے لئے نہ بھی ہوتیں تو اللہ کریم کے انسان پر اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کے شکر کا تقاضا تھا کہ انسان پھر بھی ان پابندیوں کو قبول کرتا۔

حلال اور حرام کا فرق

کھانے پینے کے معاملات میں بھی اللہ کریم نے انسان کو بعض حدود بتلائی ہیں اور حلال اور حرام کی اصطلاح استعمال کرنے کے بتلایا ہے کہ فلاں چیز انسان کھا پی سکتا ہے اور فلاں چیز کے کھانے یا پینے کی ممانعت ہے۔ جن چیزوں کے کھانے پینے کی اجازت ہے انہیں حلال کہا جاتا ہے اور جن کے کھانے پینے کی ممانعت ہے انہیں حرام کہا جاتا ہے۔

دوسری بات یہ کہ ان کھانے پینے کی چیزوں کے حصول کے لئے جو ذرائع استعمال ہونگے ان میں سے بھی کچھ ایسے ہونگے کہ جن کو اپنانے کی اسلام میں اجازت دی گئی ہے اور کچھ ایسے ہونگے کہ جن کو اپنانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو جن کی اجازت دی گئی ہے انہیں حلال ذرائع کہا جائے گا۔

حصولِ رزق کے چار انداز

ان دونوں صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سامنے حسب ذیل چار صورتیں آتی ہیں۔

☆ چیز بھی حلال ہو، حصول کا ذریعہ بھی حلال ہو۔

☆ چیز حلال ہو لیکن حصول کا ذریعہ حرام ہو۔

☆ چیز حرام ہو لیکن حصول کا ذریعہ حلال ہو۔

☆ چیز بھی حرام ہو اور حصول کا ذریعہ بھی حرام ہو۔

حصولِ رزق کا حلال و جائز طریقہ

اسلام نے ان میں سے صرف پہلی صورت کی اجازت دی ہے اور باقی تینوں صورتوں کی ممانعت کی ہے۔ اب پہلی صورت میں دو خاص باتیں ہیں۔

☆ چیز بھی بنفسہ حلال ہو۔

☆ اس کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہو۔

ان میں سے دوسری بات یعنی حصول کا ذریعہ حلال ہو۔ اسے کسبِ حلال کہتے ہیں اور اس وقت ہمارے مد نظر یہی موضوع ہے۔ اس لئے چیز کے حلال ہونے سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم صرف اسی پر بحث کریں گے کہ اس کے حصول کا ذریعہ حلال ہو۔

ایک اور چیز یہ بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کسبِ حلال کے مقابلہ میں کسبِ حرام آتا ہے۔ یعنی ناجائز طریقے سے کسی چیز کا حصول اور یہ ایک عام اصول ہے کہ اگر ضد اور مقابل کو بھی سامنے رکھا جائے تو کسی مسئلہ کی صحیح طرح سے وضاحت ہوتی ہے۔ اس لئے کسبِ حلال پر بات کرتے ہوئے ہم کسی حد تک کسبِ حرام کو بھی سامنے رکھیں گے۔

احکاماتِ خداوندی اور کسبِ حلال

(۱)۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا (سورة النحل آیت نمبر 114)

(ترجمہ) پس اے لوگو! اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ۔

(۲)۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ (سورة البقرہ آیت نمبر 168)

(ترجمہ) لوگو! زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

(۳)۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ (سورة البقرہ آیت نمبر 172)

(ترجمہ) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

(۴)۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ (سورة المائدہ آیت نمبر 88)

(ترجمہ) جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیا اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔

کسبِ حرام سے بچنے کی تلقین

(۱)۔ وَلَا تَاءْتُواكُم مِّنْ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(سورة البقرہ آیت نمبر 188)

(ترجمہ) اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقہ سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لئے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔

(۲) - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ قَرَابٍ مِّنْكُمْ (سورة النساء آیت نمبر 29)

(ترجمہ) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لیکن دین آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔

زبان رسالت مآب ﷺ اور کسبِ حلال کی ترغیب

- (1) حدیثِ قدسی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام سے پرہیز کرنے والوں سے تو مجھے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔“
- (2) بہترین عمل حلال روزی کمانا ہے۔
- (3) حلال طریقے سے روزی کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
- (4) اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے اور اللہ نے مومنوں کو وہ حکم دیا ہے جو حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا اور وہ حکم یہ ہے کہ اے میرے انبیاء پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔
- (5) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کے سامنے عرض کیا کہ حضور ﷺ! میرے لئے دعا فرمائیے کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”رزق حلال کھاؤ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔“
- (6) حضور اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ حضور! کونسا کسب پاکیزہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر ایسی بیج جو مقبول ہو۔“
- (7) حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔
- (8) حلال کمائی کا طلب کرنا فرض ہے۔
- (9) جس شخص نے حلال ذرائع سے روزی کمائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی مانند روشن ہوگا۔

(10) جو شخص چالیس روز تک حلال کی روزی کھاتا رہے کہ جس میں حرام کی ذرہ بھر آمیزش نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں اور اس کے دل سے حکمت کے موتی پھوٹتے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ کی کسبِ حرام سے بے زاری و نفرت

(1) حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، ”اگر ایک شخص حرام مال کھاتا ہے اور پھر اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ مقبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ بندگی کو گندگی سے صاف نہیں کرتے۔“

(2) قیامت کے دن ہر شخص کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا۔

(3) جو شخص مرنے کے بعد حرام مال چھوڑ جائے وہ اس کے لئے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔

(4) وہ گوشت کہ جس نے حرام کے مال سے پرورش پائی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

(5) ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلا ہو آگ اس کے زیادہ لائق ہے۔

(6) جس آدمی کے پیٹ میں حرام کا ایک نوالہ بھی چلا گیا چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔

(7) جس نے دس درہم کا لباس خریدا ان میں سے ایک حرام کا تھا جب تک وہ لباس اس آدمی کے جسم پر رہے گا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔

(8) ایک شخص کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم گرد آلود ہے، لباس سفر کر کے آتا ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب! اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟

کسبِ حلال کی ہمہ جہت برکات و حسنات

آیاتِ قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ ﷺ سے کسبِ حلال کی فضیلت و اہمیت اور کسبِ حرام کی ممانعت کے بیان کے بعد اب ہم کسبِ حلال کے چند فوائد و ثمرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

- ☆ رزقِ حلال کمانے والا دلی اور قلبی اطمینان میں رہتا ہے۔
- ☆ رزقِ حلال کمانے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
- ☆ رزقِ حلال کمانے والے کے اعمالِ حسنہ قبول ہوتے ہیں۔
- ☆ رزقِ حلال کمانے والے میں پاکدامنی پیدا ہوتی ہے۔
- ☆ رزقِ حلال کمانے والا رحمدل اور ہمدرد بنتا ہے۔
- ☆ رزقِ حلال کمانے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے۔
- ☆ رزقِ حلال کمانے سے انسان کو دیگر اعمالِ حسنہ کی بھی توفیق نصیب ہوتی ہے۔
- ☆ رزقِ حلال کمانے والے کے دل میں دوسروں کے لئے بلاوجہ نفرت پیدا نہیں ہوتی۔
- ☆ رزقِ حلال کمانے والے میں سخاوت کا جذبہ موجزن ہوتا ہے۔
- ☆ رزقِ حلال کمانے والا لین دین میں عدل کے ساتھ دیگر معاملات میں بھی عدل روٹ اپناتا ہے۔
- ☆ رزقِ حلال کمانے والا چوری، ڈکیتی وغیرہ سے محفوظ رہ کر معاشرتی امن و سکون کا باعث بنتا ہے۔

قرآن وحدیث میں حرام ذرائع رزق کی نشاندہی

اسلام نے صرف ان چیزوں کا استعمال جائز قرار دیا ہے جو خود بھی حلال ہوں اور ان کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ شریعت اسلامیہ میں تجارت، زراعت وغیرہ حلال ذرائع رزق ہیں لیکن اس کے برعکس بہت سے حرام ذرائع رزق بھی ہیں۔ ذیل میں ہم ان کا مختصراً ذکر کرتے ہیں۔

☆ چوری (Theft)

اسلام نے چوری کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے لئے قرآن حکیم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا مذکور ہے۔ چوری سے مراد یہ ہے کہ کسی کا محفوظ مال اس کی لاعلمی میں حاصل کر لینا۔

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

(سورۃ المائدہ آیت نمبر 38)

(ترجمہ) اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے (اور) اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا۔

☆ لوٹ مار اور ڈکیتی (Plunder & Dacaity)

کسی کا مال اس کی مرضی اور رضا کے بغیر زبردستی چھین لینا اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔

”جس شخص نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں“

☆ ماپ تول میں کمی (Giving Short-Measures)

اسلام نے ماپ تول میں کمی کر کے کمائی کرنے اور نفع کمانے کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

(سورة الاعراف آیت نمبر 85)

(ترجمہ) لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹانہ دو۔

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ (سورة الهود آیت نمبر 84)

(ترجمہ) اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔

ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لئے اللہ کریم نے تباہی اور ہلاکت دینے کا بھی ذکر کیا ہے۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ (سورة المطففين آیت نمبر 1,2,3)

(ترجمہ) تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لئے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا دیتے ہیں۔

☆ رشوت (Bribery)

رشوت بھی معاشرہ کی ایک برائی ہے جو کئی حق داروں کو حق سے محروم کرتی ہے اور کئی قسم کے غلط فیصلوں کا سبب بنتی ہے۔ اسلام نے اس کی بھی جمانعت کی ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(سورة البقرہ آیت نمبر 188)

(ترجمہ) اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقہ سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کیلئے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ

”رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔“

☆ سود (Usuary, Interest)

سود جو کہ دولت کو چند ہاتھوں میں مرتکز کر دیتا ہے امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر بناتا چلا جاتا ہے اسلام نے اس کی بھی ممانعت کی ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

(سورة البقرہ آیت نمبر 275)

(ترجمہ) وہ کہتے ہیں ”تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے“ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔

اور پھر سود کے متعلق قرآن حکیم نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

(سورة البقرہ آیت نمبر 278، 279)

(ترجمہ) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔

☆ جوا (Gembling)

جوا بھی شریعت اسلامیہ میں حرام اور شیطانی کام قرار دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة المائدہ آیت نمبر 90)

(ترجمہ) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور یہ جوا اور یہ بت خانے اور پانے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔

☆ حرام اشیاء کی تجارت

(Marketing of Narcotics & Prohibited Commodities)

شراب، افیون، چرس، خنزیر وغیرہ حرام اشیاء کا جس طرح استعمال حرام ہے اسی طرح ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے جیسا کہ شراب کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے دس آدمیوں پر لعنت کی ہے۔

☆ اس کے نچوڑنے والے پر جو کسی دوسرے کیلئے نچوڑتا ہو۔

☆ اپنے لئے اس کے نچوڑنے والے پر

☆ اس کے پینے والے پر

☆ اس کے لے جانے والے پر

☆ جس کے لئے لے جا رہی ہو اس پر

☆ اس کے پلانے والے پر

☆ اس کے بیچنے والے پر

☆ اس کی قیمت کھانے والے پر

☆ اس کے خریدنے والے پر

☆ جس کے لئے خریدی جائے اس پر

☆ عصمت فروشی اور قحبہ گری

(Prostitution & Bar-Houses)

اسلام نے عصمت فروشی اور قحبہ گری سے بھی منع کیا ہے اور حضور اکرم ﷺ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ”زانیہ عورت کی کمائی ناپاک ہے۔“

قرآن حکیم لونڈیوں سے پیشہ کروانے سے روکتا ہے۔

وَلَا تَكْرَهُوا فِتْنَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدُنَ تَحْصِنَا لَتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يَكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(سورة النور آیت نمبر 33)

(ترجمہ) اور اپنی لوٹائیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر تجھ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاکدامن رہنا چاہتی ہوں اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لئے غفور و رحیم ہے۔

☆ ملاوٹ اور دھوکہ دہی (Abulteration & Cheating)

ملاوٹ اور دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کو ناقص مال فروخت کر کے صحیح مال جتنی قیمت وصول کر لینے کو بھی شریعت اسلامیہ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ

”جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں“

☆ غصب (Exploitation & Usurpation)

ظلم اور جبر کے ساتھ کمزوروں کا مال لینے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ جو اس طرح مال غصب کر کے کھاتا ہے وہ درحقیقت آگ کھا رہا ہوتا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

وَيَسْخَرُونَ سَخِيرًا (سورة النساء آیت نمبر 10)

(ترجمہ) جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں درحقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔

☆ خیانت (Betrayal)

خیانت کے ساتھ نفع کمانے کو بھی منع کیا گیا ہے اور اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

قیامت کے روز اس کا بدلہ ملے گا اور اسے اس کا حساب دینا پڑے گا۔

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (سورۃ آل عمران آیت نمبر 161)

(ترجمہ) اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔

کسب معاش میں خیانت کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی مشین وغیرہ کسی کو مرمت کے لئے دی اب ظاہر ہے یہ چیز اس کے پاس بطور امانت ہوگی اگر وہ اس کے قیمتی پرزے نکال کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس میں گھٹیا پرزے ڈال کر مالک کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ خیانت ہوگی۔

☆ حاصل کلام (Feed Back)

مذکورہ بالا حقائق و تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کیلئے بہتر اور نفع بخش منصوبہ بندی کرے۔ کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد تو عبادتِ خداوندی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے

☆ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(ترجمہ) اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔

گویا کہ بندہ وہ ہے جو وظیفہ بندگی بجالاتا ہے۔ بندہ بندگی کی بنا پر کامیابی و کامرانی کی منزلیں حاصل کرتا ہے اور عبادت اور بندگی کے دس حصوں میں سے نو حصے تو کسبِ حلال میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی نا سمجھ اور بے وقوف عبادت کا دسواں حصہ نماز، روزہ، حج و عمرہ، جہاد، تسبیحات، ذکر و فکر، تلاوت و اعتکاف وغیرہم کی صورت میں اُسے محفوظ کر بھی لیتا ہے تو اُس نے گویا بندگی کے ایک سو حصوں میں سے دس فیصد عبادت کو محفوظ کیا ہے جبکہ بقیہ نوے فیصد عبادت تو صرف کسبِ حلال ہے جس سے بے خبر اور بے

نیاز رہ کر وہ صرف دس فیصد عبادت سے نیکیوں کے پلڑے کو جنت کے حق میں کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

فَأَمَّا مَنْ نَقَلَتْ مَوَازِينُهُ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (سورة الفارعة، ۷۸، ۷۹)

ترجمہ: پس جس کے نیکیوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ من پسند زندگی میں ہوگا اور جس کے نیکیوں کے وزن کم ہوں گے تو اس کا تھکانہ ہاویہ (دوزخ) ہوگا۔

لہذا دانش مندا اور حقیقی کامیاب و کامران متقی وہ ہے جو عبادت کے دسویں حصہ کے ساتھ ساتھ اصل اور بنیادی نو حصوں کی حفاظت کا اہتمام پہلے کرتا ہے کیونکہ دسویں حصہ کی قبولیت کا دار و مدار بھی کسبِ حلال و رزقِ حلال پر ہے ورنہ چالیس دن تک نماز و دعا صرف ایک لقمہ حرام کی وجہ سے مردود و ضائع ہو جاتی ہے۔

☆ دُعَائِيَّةٌ كَلِمَاتٌ (Humble Prayer)

☆ اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنَا

بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

(ترجمہ) اے میرے مولا! میری حلال سے کفایت فرما اور حرام سے محفوظ فرما اور غیروں کی بجائے اپنے فضل و کرم سے مجھے غنی فرما دے۔ (الحدیث)

(آمین۔ حمد آمین۔ بجاہ النبی الکریم ﷺ)

عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کے چئیر مین کی دیگر کتب برائے قارئین

- ☆ آئیے دین سیکھئے
- ☆ آئیے قرآن سیکھئے
- ☆ آئیے حدیث سیکھئے
- ☆ آئیے تصوف سیکھئے
- ☆ آئیے انگریزی سیکھئے
- ☆ آئیے سیکھئے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں!
- ☆ ماسٹر گائیڈ ایم اے انگلش (پارٹ ون)
- ☆ ماسٹر گائیڈ ایم اے انگلش (پارٹ ٹو)
- ☆ ماسٹر گائیڈ ایم اے سیاسیات (پارٹ ون)
- ☆ ماسٹر گائیڈ ایم اے اسلامیات (پارٹ ون)

ملنے کا پتہ

مکتبہ تنظیم الاسلام، مرکزی جامع مسجد مدینہ، 3/4 بلاک Z، پیپلز کالونی، گوجرانوالہ۔ ٹیلی فون: 0333-8105182

عظیم اکیڈمی، گوندلانوالہ روڈ، گوجرانوالہ۔ ٹیلی فون: 231060

عظیم اکیڈمی، 38/C بلاک Z پیپلز کالونی، گوجرانوالہ۔ ٹیلی فون: 241110

سنوڈنٹس اون بک ہاؤس، اردو بازار، لاہور۔ ٹیلی فون: 042-7230426



Allama Professor
Muhammad Azeem Farooqi



Hazrat Allama
Muhammad Saeed Ahmed Mujaddadi

AZEEM

EDUCATIONAL CONFERENCE

The
Azeem Educational Conference
(Regd) Pakistan, Gujranwala,
is an organization to educate the
masses by all means.

**“ Awareness, Education &
Confidence ”**

is its motto.

New Century strongly demands
an enlightened education-system
for the Muslim-Students to
meet the challenges of modern era.

For this sole purpose A.E.C.
will properly utilize all its
resources with the grace of
Almighty Allah.